

# Quranic Examples of Ism Faa'il

- Surah Al-Baqarah (2:114) ---accusative /mansoob, masculine, plural

خَائِفِينَ (kha'ifeen)

ڈرتے ہوئے

- Surah Al Baqarah 116---nominative(marfoo), muzakkar jama (masculine, plural)


قَانِتُونَ (qānitūna): are obedient / are subject to (His will)

- Aal e Imran -53

الشَّاهِدِينَ


*l-shāhidīna*


The witnesses (to the truth)

- Aal e Imran -54 – pl. المَكْرِينِ (Al-mākirīn): of planners / schemers 

- Aal e Imran ayat 56


- مِّن (min): any (emphasizing none)

- نَاصِرِينَ (nasureena): helpers / vindicators / protectors  Quran.com +3

- الْوَاقِعَةُ (Al-Waaqi'ah): وہ واقع ہونے والی (The Inevitable Event)  My Islam +2


# Surah At Tawbah ayat 112

## Part 1: The Believers' Attributes

- التَّائِبُونَ (At-Ta'iboon): توبہ کرنے والے (Those who repent)
- الْعَابِدُونَ (Al-'Aabidoon): عبادت کرنے والے (Those who worship Allah)
- الْحَامِدُونَ (Al-Haamidoon): حمد کرنے والے / تعریف کرنے والے (Those who praise Allah)
- السَّائِحُونَ (As-Saa'ihoon): روزے رکھنے والے / سیاحت کرنے والے (Those who fast / travel for religion)
- الرَّاٰكِعُونَ (Ar-Raaki'oon): ركوع کرنے والے (Those who bow down in prayer)
- السَّاجِدُونَ (As-Saajidoon): سجدہ کرنے والے (Those who prostrate) 

# Surah At Tawbah ayat 112 – part 2

## Part 2: Actions and Boundaries

- **الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ (Al-Aamiroona bil-Ma'roof):** نیکی کا حکم دینے والے (Those who enjoin what is good)
- **وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ (Wan-Naahoona 'anil-Munkar):** برائی سے روکنے والے (Those who forbid what is evil)
- **وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (Wal-Haafizoona li-Hudoodil-Laah):** حفاظت / رکھنے والے (Those who observe the limits set by Allah) 

## Part 3: The Glad Tiding

- **وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (Wa Bash-shiril-Mu'mineen):** اور خوشی سناؤ ایمان والوں کو (And give good tidings to the believers)

# Surah Al Ahzaab ayat 35

## Part 1: The believers (Men and Women)

- **إِنَّ (Inna):** بیشک (Indeed)
- **الْمُسْلِمِينَ (Al-muslimeena):** مسلمان مرد (Muslim men)
- **وَالْمُسْلِمَاتِ (Wal-muslimati):** اور مسلمان عورتیں (And Muslim women)
- **وَالْمُؤْمِنِينَ (Wal-mu'mineena):** اور ایمان والے مرد (Believing men)
- **وَالْمُؤْمِنَاتِ (Wal-mu'minati):** اور ایمان والی عورتیں (And believing women)
- **وَالْقَانِتِينَ (Wal-qaniteena):** اور فرمانبردار مرد (Obedient men)
- **وَالْقَانِتَاتِ (Wal-qanitati):** اور فرمانبردار عورتیں (And obedient women)
- **وَالصَّادِقِينَ (Was-sadiqina):** اور سچے مرد (Truthful men)
- **وَالصَّادِقَاتِ (Was-sadiqati):** اور سچی عورتیں (And truthful women) 


# Surah Al Ahzaab ayat 35

## Part 2: Virtues and Good Deeds

- (Patient men) اور صبر کرنے والے مرد (Was-sabireena) وَالصَّابِرِينَ
- (And patient women) اور صبر کرنے والی عورتیں (Was-sabirati) وَالصَّابِرَاتِ
- (Humble / Submissive men) اور عاجزی (خشوع) کرنے والے مرد (Wal-khashi'eena) وَالْخَاشِعِينَ
- (And humble women) اور عاجزی کرنے والی عورتیں (Wal-khashi'ati) وَالْخَاشِعَاتِ
- (Charitable men) اور صدقہ / خیرات کرنے والے مرد (Wal-mutasaddiqina) وَالْمُتَصَدِّقِينَ
- (And charitable women) اور صدقہ کرنے والی عورتیں (Wal-mutasaddiqati) وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
- (Fasting men) اور روزے رکھنے والے مرد (Was-sa'imeena) وَالصَّائِمِينَ
- (And fasting women) اور روزے رکھنے والی عورتیں (Was-sa'imati) وَالصَّائِمَاتِ

# Surah Al Ahzaab ayat 35

## Part 3: Protection and Remembrance

- اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد (Wal-hafizeena furoojahum): وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ (Men who guard their chastity)
- اور حفاظت کرنے والیاں (Wal-hafizati): وَالْحَافِظَاتِ (And women who guard their chastity)
- اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد (Waz-zakirina Allaha katheeran): وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا (Men who remember Allah often)
- اور (بہت) یاد کرنے والیاں (Waz-zakirati): وَالذَّاكِرَاتِ (And women who remember Allah often) 


# Surah Al Ahzaab ayat 35

## Part 4: The Reward

- **أَعَدَّ اللَّهُ (A'adda Allahu):** اللہ نے تیار کر رکھا ہے (Allah has prepared)
- **لَهُمْ (Lahum):** ان کے لیے (For them)
- **مَغْفِرَةً (Maghfiratan):** بخشش (Forgiveness)
- **وَأَجْرًا عَظِيمًا (Wa ajran 'azeeman):** اور بہت بڑا اجر (And a magnificent/great reward)

## Ism Fa'il (إِسْمُ الْفَاعِلِ) - Active Participle

Ism Fa'il is an Arabic noun derived from a verb to indicate the "doer" of an action, similar to the "er" ending in English (e.g., play -> play**er**)

Arabic (Ism Fa'il) 	Urdu Translation	English Translation
تَاصِرٌ	مدد کرنے والا (ایک مرد)	A helper (male)
تَاصِرَانِ	مدد کرنے والے (دو مرد)	Two helpers (males)
تَاصِرُونَ	مدد کرنے والے (سب مرد)	Helpers (all males/plural)
تَاصِرَةٌ	مدد کرنے والی (ایک عورت)	A helper (female)
تَاصِرَتَانِ	مدد کرنے والی (دو عورتیں)	Two helpers (females)
تَاصِرَاتٌ / تَوَاصِرُ	مدد کرنے والی (سب عورتیں)	Helpers (all females/plural)

Ism Faa'il/ Active Participle (Noun)  
اسم فاعل

Lesson 29

Part 2-Active Participle (Subject  
Noun)

اسم فاعل	←	مادة
فَاعِلٌ	←	فَعَلَ
فَ - ا - عِ - لٌ	←	فَ - عَ - لٌ
خَ - ا - لٌ - قِي	←	خَ - لٌ - قِي
خَالِقٌ	←	خَلَقَ

مشق ۱ -  
سدرجہ ذیل مادہ (roots) سے اسم فاعل کی گردان کریں  
فاعل کے وزن پر -

① ن-یں-ر - ② ک-ف-ر ③ ص-د-ق ④ ج-ہ-ل

## Assignment pg 1

اسم فاعل کی گردان فاعل کے وزن پر

واحد	تثنیہ	جمع	
فَاعِلٌ	فَاعِلَانِ	فَاعِلُونَ	مذکر
فَاعِلَةٌ	فَاعِلَتَانِ	فَاعِلَاتٌ	مؤنث

## Assignment pg 2

اسم فاعل کی گردان فاعل کے وزن پر

جمع	تثنیہ	واحد	
عَابِدُونَ	عَابِدَانِ	عَابِدٌ	مذکر
عَابِدَاتٌ	عَابِدَاتَانِ	عَابِدَةٌ	مؤنث

## Assignment pg 3

## Worksheet

اسم فاعل کی گردان فاعل کے وزن پر

جمع	ثنیہ	واحد	
فَاعِلُونَ	فَاعِلَانِ	فَاعِلٌ	مذکر
فَاعِلَاتٌ	فَاعِلَاتِنِ	فَاعِلَةٌ	مؤنث

جمع	ثنیہ	واحد	ن ص ر
			مذکر
			مؤنث

جمع	ثنیہ	واحد	ك ف ر
			مذکر
			مؤنث

## Assignment pg 4

## Worksheet

اسم فاعل کی گردان فاعل سے وزن پر

جمع	تثنیہ	واحد	
فَاعِلُونَ	فَاعِلَانِ	فَاعِلٌ	مذکر
فَاعِلَاتٌ	فَاعِلَاتٍ	فَاعِلَةٌ	مؤنث

جمع	تثنیہ	واحد	ص د ق
			مذکر
			مؤنث

جمع	تثنیہ	واحد	ج ہ ل
			مذکر
			مؤنث

# Quranic Examples

(72:24:9) *nāṣiran*

(in) helpers

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا

(86:10:6) *nāṣirin*

any helper

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

(56:59:5) *l-khāliqūna*

the Creators

أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

(6:102:8) *khāliqu*

(the) Creator

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ

(70:1:2) *sāilun*

a questioner

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

(12:7:7) *lilssāilīna*

for those who ask

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ

#### 4: Ism (اسم) > Ilm-ul-Ishtiqaaq (علم الإشتقاق) > Active Participle (اسم فاعِل)

*Ism Faa'il* is the *Ism Mushtaq* that is the doer of the *Fe'l*.

ظالم : one who does the action of ظلم

كاذب : one who says كذب

صديق : one who says صدق

*Ism Faa'il* is the word that is on the structure of فاعِل regardless of its *Iraab*.

For example:

لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا [6:122]

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ [6:132]

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا [6:139]

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [2:94]

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ [2:164]

## اسم کی چند مزید اقسام

### اسم فاعل (SUBJECT)

کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔

☆..... اگر یہ کام کرنے والا "فاعل" کے خاص وزن پر ہو تو اسم فاعل کہلاتا ہے۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ مِثْلَ امْرَأَةٍ فَاعِلٌ هِيَ۔

جبکہ قَالَ قَائِلٌ مِثْلَ قَائِلٍ اسْمُ فَاعِلٍ هُوَ۔

☆..... كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوعٌ (ہر فاعل حالت رُفِی میں ہوتا ہے)

لہذا

☞ اگر فاعل واحد اسم ہو تو اس صورت میں آخری حرف پر پیش (-) یا پیش توین (-) ہو  
مثلاً: اِبْرَاهِيمُ ، نُوحٌ۔

☞ تشبیہ اسم کی صورت میں "ان" پیش کو ظاہر کرے گا۔ مثلاً: رَجُلَانِ ، مُؤْمِنَانِ۔

☞ فاعل جمع اسم کی صورت میں "وَن" اور "ات" پیش کو ظاہر کرے گا۔ مثلاً: مُسْلِمُونَ ، قَائِمَاتٌ۔

نوٹ: اسم فاعل کے "فاعل" کے علاوہ مزید اوزان بھی ہیں جن کا ذکر فصل کے باب میں آئے گا۔

## فاعل کے اعراب

جمع	تشبیہ	واحد	
مُوْنَ	اِنِ	ـُ/ـِ	مذکر
اَتِ	تَانِ	ـُ/ـِ	مؤنث

## التمرین (Exercise)

س ۱۔ درج ذیل میں سے فاعل اور اسم فاعل کو الگ الگ کریں۔

حَتَمَ اللهُ ، ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا ، اِنَّا هُمْنَا قَاعِدُونَ ، خَلَقَ اللهُ

س ۲۔ قرآن مجید سے فاعل اور اسم فاعل (واحد، تشبیہ اور جمع) کی پانچ پانچ مثالیں لکھیے۔